



III Level 3
 ↗ Urdu / French
 📖 Samrina Sana
 🎨 Brian Wambu
 ✒ Lesley Koyi, Ursula Nafula



Le jour que je quitta la maison pour la ville

لیلیہ کو تھا لے کیا جاتے تھے عورتیں،

This story originates from the African Storybook (africanstorybook.org) and is brought to you by Storybooks Canada in an effort to provide children's stories in Canada's many languages.

Translated by: (ur) Samrina Sana, (fr) Alexandra Danahy

Illustrated by: Brian Wambu

Written by: Lesley Koyi, Ursula Nafula

je quitta la maison pour la ville
لیلیہ کو تھا لے کیا جاتے تھے عورتیں، / Le jour que


storybookcanada.ca

Storybooks Canada



Attribution 4.0 International License.
 This work is licensed under a Creative Commons
<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>





میرے گاؤں کا چھوٹا سا بس سٹاپ لوگوں اور بھری ہوئی بسوں میں
مصروف تھا۔ زمین پر رکھنے کے لیے اور بھی سامان موجود تھا۔ کندکٹر ان
جلگھوں کا نام چلا کر بتا رہے تھے کہ بسیں کہاں جا رہی ہیں۔

...


Le petit arrêt d'autobus dans mon village était
occupé avec des tas de gens et des autobus
surchargés. Sur le sol il y avait encore plus de choses
à charger. Les revendeurs de billets criaient les
noms des endroits que leurs autobus allaient.

« Ville ! Ville ! Direction ouest ! » entendis un
revendeur de billets crié. C'était l'autobus que je
devais prendre.

...

-جیو جاگی مته نکو نه،
-بیلی می اش کریزیا مته خبر داش به نکپه نکپه






شہر کی بس تقریباً بھر چکی تھی لیکن مزید لوگ اندر جانے کے لیے ایک دوسرے کو دھکا دے رہے تھے۔ کچھ لوگوں نے اپنا سامان بس کے نیچے رکھا باقیوں نے اپنا سامان اندر بنے خانوں میں رکھ دیا۔

...

L'autobus de ville était presque plein, mais plus de personnes poussaient encore pour embarquer. Quelques-unes chargèrent leurs valises sous l'autobus. D'autres mirent les leurs sur les étagères à l'intérieur.



واپس جانے والی بس تیزی سے بھر رہی تھی۔ جلد ہی وہ مشرق کا راستہ اختیار کر لے گی۔ میرے لیے اب سب سے ضروری کام اپنے چجا کے گھر کو ڈھونڈنا تھا۔

...

L'autobus de retour se remplissait rapidement. Bientôt il partirait vers l'est. La chose la plus importante pour moi maintenant était de commencer à chercher la maison de mon oncle.

Des nouveaux passagers agrippaient leurs billets tandis qu'ils cherchaient un endroit pour s'asseoir dans l'autobus. Des femmes avec des jeunes enfants ont rendus confortable pour le long voyage.

...


-اَجِبْرُوكْ مُحَمَّدْ تَارْ كَبِيرْ سَنْجَايْ كَوْنِيْزْ مُحَمَّدْ
كَوْنِيْزْ - كَتْهُوْ سَهْيَةْ، كَوْنِيْزْ كَبِيرْ كَوْنِيْزْ
كَوْنِيْزْ كَبِيرْ، كَوْنِيْزْ كَبِيرْ كَوْنِيْزْ كَبِيرْ



Neuf heures plus tard, je me suis réveillé au bruit de quelqu'un qui appela les passagers qui retournaient au village. J'ai ramassé mon petit sac et j'ai sauté de l'autobus.

...

-كَوْنِيْزْ مُحَمَّدْ
كَوْنِيْزْ، كَبِيرْ كَوْنِيْزْ كَبِيرْ كَوْنِيْزْ كَبِيرْ
كَوْنِيْزْ، كَبِيرْ كَوْنِيْزْ كَبِيرْ كَوْنِيْزْ كَبِيرْ






میں آگے جا کر ایک کھڑکی کے پاس بیٹھا۔ میرے آگے کے بیٹھے آدمی نے سبز رنگ کا ایک پلاسٹک کا تھیلا اپنے ہاتھوں میں دبارکھا تھا۔ اُس نے پرانے جو تے پہنے تھے، ایک پھٹا ہوا کوٹ اور وہ کافی پریشان دکھائی دے رہا تھا۔

...

Je me suis tassé à côté d'une fenêtre. La personne à côté de moi tenait un sac vert en plastique fermement. Il portait des vieilles sandales, un manteau usé, et il semblait nerveux.



راستے میں، میں نے اُس جگہ کا نام یاد کیا جہاں بڑے شہر میں میرے پچا رہتے ہیں۔ میں ابھی بھی اُسے بڑا بڑا تھا جب میری آنکھ لگی۔

...

En chemin, j'ai mémorisé le nom de l'endroit où mon oncle vivait dans la grande ville. Je le marmonnais encore lorsque je me suis endormis.

d'arbres ?

Mais ma tête revenait toujours à des pensées de
chez moi. Est-ce que ma mère sera en sécurité ? Est-
ce que me lapins rapporteront de l'argent ? Est-ce
que mon frère se souviendra d'arroser mes semis
dans la ville.

...

ذٰلِكَ،

يُخْرِجُونَهُمْ مِّنْ أَرْضِهِ - إِنَّمَا تَعْمَلُونَ كُلَّ مُحْمَّدٍ
أَنْ تُرْزِقُوكُمْ مِّنَ الْأَنْوَارِ - وَمَنْ يُرْزَقُ
بِالْأَنْوَارِ فَإِنَّمَا يُرْزَقُ بِمَا يَعْمَلُونَ

...

-۱۴-

وَكُلُّ نَفْسٍ - إِنَّمَا تَعْمَلُونَ كُلَّ مُحْمَّدٍ
أَنْ تُرْزِقُوكُمْ مِّنَ الْأَنْوَارِ - وَمَنْ يُرْزَقُ
بِالْأَنْوَارِ فَإِنَّمَا يُرْزَقُ بِمَا يَعْمَلُونَ





سامان کمل ہو چکا تھا اور مسافروں نے اپنی اپنی جگہ لے لی تھی۔ سامان بیچنے والے ابھی بھی دھکا دے کر بس کے اندر اپنا سامان بیچنے کی کوشش کر رہے تھے۔ ہر کوئی چلا رہا تھا جو چیز اُس کے پاس بیچنے کے لیے موجود تھی۔
اُن کے الفاظ میرے لیے مزاحیہ تھے۔
...

Le chargement était complet et tous les passagers étaient assis. Des colporteurs se frayait encore un passage dans l'autobus pour vendre leurs marchandises aux passagers. Chacun criait les noms des articles disponibles. Les mots me semblaient drôles.



سفر کے دوران، بس کے اندر گرمی کی شدت اور بڑھ گئی۔ میں نے نیند کی امید کرتے ہوئے اپنی آنکھوں کو بند کر لیا۔
...

Alors que le voyage avançait, l'intérieur de l'autobus est devenu très chaud. J'ai fermé les yeux en espérant de dormir.

Lorsque l'autobus quitta l'arrêt, j'ai fixé mon regard par la fenêtre. Je me demandais si je retournerais à mon village un jour.

...

-« Où, où, où, où », dit le petit frère.
« Que faire ? Que faire ? »



Quelques passagers achètent des breuvages, d'autres achètent des petites collations et commencent à manger. Ceux qui n'avaient pas d'argent, comme moi, observaient seulement.

...

-« حسبي الله رب العالمين، -لهم إني بذلة مهدا
،، انتبهوا، لا تدعوا هنالك، كم أنا سعيد





یہ سرگرمیاں بس کے مسلسل ہارن کی وجہ سے متاثر ہو رہی تھیں لیکن یہ ایک نشانی بھی تھی کہ ہم جانے کے لیے تیار ہیں۔ کنڈکٹر سامان بیچنے والوں پر بہت زور سے چلایا کہ وہ باہر چلے جائیں۔

...

Ces activités ont été interrompues par le klaxonnement de l'autobus, un signe que nous étions prêts à partir. Le revendeur de billets cria aux colporteurs de sortir.



سامان بیچنے والے ایک دوسرے کو دھکے دیتے ہوئے بس سے باہر نکلے۔ کچھ نے مسافروں کو بقايا ديا جکہ باقيوں نے آخری وقت میں اپنی چیزیں بیچنے کی کوشش کی۔

...

Les colporteurs se poussaient pour sortir de l'autobus. Quelques-uns ont redonné de la monnaie au voyageurs. D'autres ont fait des tentatives de dernière minute pour vendre d'autres articles.